



# بش فائر کے بعد جب گھر

## واپسی ہو تو صحت مند رہیں

اپنی مقامی ہنگامی خدمات سے پوچھیں کہ کیا آپ کا پر اپرٹی پر واپس جانا محفوظ ہے۔  
اگر آپ واپس آ سکتے ہیں، تو آگے کی منصوبہ بندی کریں۔ صحت اور حفاظت کے خطرات کو جانیں۔  
بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اگر انہیں لے جانا پڑے تو یقینی بنائیں کہ وہ بھی محفوظ رہیں۔

### اپنے ساتھ اپنی پر اپرٹی پر یہ چیزیں ساتھ لے جائیں:

- پینے کے پانی کی بوتلیں
- کھانا
- سن سکرین
- سورج سے حفاظت کے لئے ایک وسیع کنارے والی ٹوپی
- حفاظتی لباس بشمول مضبوط جوتے، ہیوی ڈیوٹی کام کے دستاں، ڈسپوزیبل عبا (لبے بازوؤں اور پتلون کے ساتھ) اور P2/N95 چہرے کے ماسک۔

### غیر محفوظ اشیاء سے محتاط رہیں جیسے:

- جلی ہوئی راکھ اور لکڑی، ایسبیسٹاس، دھول، کیمیکلز اور دھاتیں
- خوراک اور دوائیں جو آگ یا گرمی سے خراب ہوئی ہوں
- پینے کا پانی جو راکھ سے آلودہ (گندہ) ہو، آگ پر قابو ہانے والا مواد اور ملبہ (مثال کے طور پر کوڑا کرکٹ، مٹی، کیڑے، یا جانور)
- محفوظ طریقے سے صاف کرنے اور غیر محفوظ اشیاء سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے نیچے دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔

### اپنی پر اپرٹی چھوڑتے وقت:

- تمام حفاظتی لباس کی اشیاء کو کوڑے دان (بن) کے تھیلے میں پیک کریں
- اپنا حفاظتی لباس اتارنے کے بعد اپنے ہاتھ دھولیں
- اپنے جوتوں کو دوبارہ پہننے سے پہلے صاف کریں

مزید جانیں: [www.health.nsw.gov.au/bushfires](http://www.health.nsw.gov.au/bushfires)

